

اس پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ (PDS) کے اردو ترجمے کی بنیاد انگریزی متن مورخہ 22 جون 2015 پر رکھی گئی ہے۔

پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ



پراجیکٹ ڈیٹا شیٹس (PDS - Project Data Sheet) میں پراجیکٹ یا پروگرام سے متعلق معلومات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے: چونکہ PDS جاری پراجیکٹس کے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کے ابتدائی مرحلے میں بعض معلومات شامل نہیں کی جاسکتی لیکن جب یہ معلومات دستیاب ہوتی ہیں تو انہیں شامل کر لیا جاتا ہے۔ مجوزہ پراجیکٹس کے بارے میں مذکورہ معلومات عارضی اور اشاراتی نوعیت کی ہوتی ہیں۔

PDS تیار کرنے کی تاریخ	-
PDS اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ	11 جون 15
پراجیکٹ کا نام	پبلک سیکٹر کے اداروں کا اصلاحاتی پروگرام (ذیلی پروگرام 1)
ملک	پاکستان
پراجیکٹ/پروگرام نمبر	48065-002
کیفیت/ صورت حال	مجوزہ
جغرافیائی محل و وقوع/جگہ	پاکستان
کسی بھی ملکی پروگرام یا حکمت عملی تشکیل دینے۔ کسی پراجیکٹ کی مالی معاونت کرنے یا کسی عہدے یا حوالہ دینے سے ایشیائی ترقیاتی بینک کا کسی علاقے یا جغرافیائی حدود کی قانونی یا دیگر حیثیت کے بارے میں رائے قائم کرنا مراد نہیں ہے۔	
شعبہ ذیلی شعبہ	پبلک سیکٹر مینجمنٹ اقتصادی امور کا انتظام و انصرام ریاست کے ملکیتی اداروں میں اصلاحات
سٹریٹجک ایجنڈا تبدیلی کے محرکات	جامع اقتصادی نمو (IEG) طرز حکمرانی اور صلاحیت سازی (GCD) شراکت داریاں (PAR) نجی شعبہ کی ترقی (PSD)
صنعتی مساوات اور صنف کو مرکزی دھارے میں لانے کی کیٹیگریاں	کیٹیگری 4: کوئی صنفی عنصر نہیں (NGE)

مالت کاری

منظور شدہ رقم [ہزار]	منظور شدہ نمبر	فنانسنگ کا ذریعہ	مالی معاونت کی قسم / طریقہ
150,000	-	ایشیائی ترقیاتی بینک	قرضہ
150,000 ڈالر			میزان

■ تحفظ کی کیٹیگریاں

تحفظ کی کیٹیگریوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مہربانی فرما کر یہ ویب سائٹ دیکھیں: <http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories>

سی	ماحول
سی	غیر رضاکارانہ نوآباد کاری
سی	مقامی لوگ

■ ماحولیاتی اور سماجی مسائل کا خلاصہ

■ ماحولیاتی پہلو

بہت کم یا کوئی بھی ماحولیاتی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔

■ غیر رضاکارانہ آباد کاری

غیر رضاکارانہ آباد کاری کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ مزید کارروائی کی ضرورت نہیں۔

■ مقامی لوگ

مقامی لوگوں پر کوئی اثرات مرتب ہونے کی توقع نہیں۔ مزید کارروائی کی ضرورت نہیں۔

■ اسٹیک ہولڈرز (متعلقہ افراد اور اداروں) سے ابلاغ، ان کی شرکت اور مشاورت

■ پراجیکٹ کے ڈیزائن/تیاری کے دوران

پراجیکٹ کے ڈیزائن/تیاری میں اہم اسٹیک ہولڈرز، نجی شعبے کے اداروں [PSEs] کے بورڈز، انتظامیہ اور سٹاف، ریگولیٹری اتھارٹیز اور وزارتیں شامل ہیں۔ اس سے مستفید ہونے والوں میں شہری و دیہی عوام (صارفین) اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی، تجارتی، صنعتی اور سرکاری ایشیا و خدمات کے گھریلو صارفین جن کو PSEs کی جانب سے یہ خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ ان اسٹیک ہولڈروں کے نمائندوں سے پروگرام کے ڈیزائن کے دوران مشاورت کی گئی ہے۔

■ پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران

پروگرام پر عمل درآمد کرتے وقت تمام اسٹیک ہولڈروں سے مشاورت جاری رکھی جائے گی۔ عوامی ابلاغ کی حکمت عملی تیار کی جائے گی تاکہ مفاہمت، شفافیت اور پبلک سیکٹر کی شراکت کو یقینی بنایا جاسکے۔

■ تفصیل

اس کا نتیجہ پاکستان میں پبلک سیکٹر کے اداروں کی بہتری کی صورت میں نمودار ہوگا اور جامع نیز تر نجکاری اور نئے تشکیلی پروگرام پر عملدرآمد کیا جائے گا۔ اس پروگرام کی چار مقاصد ہیں: i. سرکاری شعبے کی جانب سے نجکاری کی کوششوں میں معاونت کرنا۔ ii. اس بات کو یقینی بنانا کہ منتخب سرکاری شعبہ کے اداروں کی تشکیل نو کر لی گئی ہے۔ iii. سرکاری شعبہ اداروں کو مالیات کی منتقلی کے لیے مشروط فریم ورک تیار کرنا۔ iv. معاشی امور میں باقاعدگی لانے والے انتظامات کو موثر بنانا۔

پراجیکٹ کی خصوصیات اور اس کا ملکی/علاقائی حکمت عملی سے تعلق

پبلک سیکٹر شعبہ کے کاروباری منصوبوں کا مجوزہ اصلاحاتی پروگرام منتخب پبلک سیکٹر اداروں کے ڈھانچے کی تشکیل نو اور ان کی نجکاری میں حکومتی کوششوں میں مدد دے گا۔ پاکستان کے بہت سے منتخب پبلک سیکٹر اداروں کی تشکیل نو اور ان کی نجکاری کے معاملات ملک کے تعمیراتی ڈھانچے کی فراہمی میں اہم خدمات انجام دیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ تو منافع بخش ہیں لیکن اکثر کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے۔ ان PSEs کے بارے میں محدود مالیاتی اعداد و شمار دستیاب ہیں۔ ان اداروں پر اٹھنے والے مالی و معاشی اخراجات کو مستقل طور پر کم کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ان اداروں کی نج کاری کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر شعبہ کی ان اداروں میں شراکت کا کوئی مربوط نظام متعارف کرایا جائے۔ حکومت ملک کو ترقی کی کئی ایک راہوں پر گامزن کرنے کے لیے ادائیگیوں کے توازن کو مستحکم کرنے کے لیے ایک پرکشش معاشی اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے۔ اس ضمن میں حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے 36 ماہ پر مبنی "توسیع شدہ فنڈ" کی سہولت" فراہم کرنے کی درخواست کی ہے جس سے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کو ممکن بنایا جائے گا۔ حکومت کو جو رقم فراہم کی جائے گی وہ تقریباً 6.6 بلین ڈالر کے برابر ہے۔ حکومت اور آئی ایم ایف کے مابین انتظامی ڈھانچے کی اصلاحات اور پالیسی اہداف پر ایک سمجھوتہ بھی طے پا گیا ہے جو حکومت کے جامع اقتصادی اصلاحاتی پروگرام کے عزم کا عکاس ہے۔

ترقیاتی اثرات

پاکستان میں PSE کی بہتر کارکردگی

پراجیکٹ کے نتائج

نتائج کی تفصیل

نتائج کے حصول کے لیے پیش رفت

ایک جامع اور موثر نج کاری اور نئے ڈھانچے کی تشکیل کے پروگرام -
پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔

کوششوں اور عملدرآمد کی پیش رفت

عملدرآمد کی پیش رفت کی صورت حال
(کوششیں، سرگرمیاں اور مسائل)

پراجیکٹ کی کوششوں کی تفصیل

PSE نجکاری کوششوں کی سپورٹ کرنا، منتخب PSEs کے ڈھانچوں کی تشکیل نو اور مالی نظم و ضبط کو موثر بنانے ہونے PSEs کو مالی منتقلیوں کرنے کے لیے مضبوط فریم ورک بنانا۔

آپریشنز/تعمیرات کی صورت حال

ترقیاتی مقاصد کی صورت حال

مادی تبدیلیاں

■ کاروباری مواقع

پہلی فہرست کی تاریخ

مشاورتی خدمات

پروکیورمنٹ

پروکیورمنٹ اور کنسلٹنسی کے مواقع کے لیے دیکھیں:

<http://www.adb.org/projects/48065-002/business-opportunities>

■ نظام الاوقات

15 دسمبر 2014

تصوراتی خاکہ کی وضاحت

22 جون 2015 تا 30 جون 2015

حقائق کی جانچ پڑتال

23 جولائی 2015

انتظامیہ کی جائزہ کمیٹی

منظوری

■ سنگ میل

اختتام			موثریت	دستخط	منظوری	منظوری نمبر
حقیقتی	نظر ثانی شدہ	اصل				
-	-	-	-	-	-	-

■ استعمال

فیصد	دیگر [ہزار ڈالر]	ADB [ہزار ڈالر]	منظوری نمبر	تاریخ
				معابدہ کامجموعی ایوارڈ
-	-	-	-	11 جون 2015
				رقم کی مجموعی ادائیگی
-	-	-	-	-

■ معابدہ جات کی صورت حال

معابدہ جات کی اقسام کی مندرجہ ذیل درجہ بندی کی جاتی ہے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، تحفظ کے امور، سماجی شعبہ ، مالیاتی ، معاشی اور دیگر۔ مندرجہ ذیل معیار کے مطابق معابدہ جات کی ہر ایک قسم کی درجہ بندی کی جاتی ہے: (i) تسلی بخش اس درجہ بندی میں تمام معابدہ جات کی شرائط کی تعمیل کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک استثناء دینے کی اجازت ہوتی ہے، (ii) جزوی تسلی بخش اس درجہ بندی میں زیادہ سے زیادہ دو معابدوں کی شرائط کی تعمیل نہیں کی جاتی ہے، (iii) غیر تسلی بخش اس درجہ بندی میں تین یا اس سے زائد معابدوں کی شرائط کی تعمیل نہیں کی جاتی ہے۔ ابلاغ عامہ پالیسی 2011 کے مطابق پراجیکٹ کے مالیاتی گوشواروں کے لیے معابدہ کی درجہ بندی کا اطلاق صرف ان پراجیکٹس پر ہوتا ہے جن کی بات چیت کی دعوت 2 اپریل 2012 کے بعد دی گئی ہو۔

کیٹیگری							منظوری نمبر
پراجیکٹ کے مالیاتی گوشوارے	تحفظ کے امور	دیگر	معاشی	مالی	سماجی	شعبہ جاتی	
-	-	-	-	-	-	-	کیٹیگری

■ رابطے اور تازہ ترین تفصیلات

ADB کا ذمہ دار افسر	Joao Pedro Farinha Fernandes (jfarinha@adb.org)
ADB کا ذمہ دار محکمہ	سنٹرل اینڈ ویسٹ ایشیاء ڈیپارٹمنٹ
ADB کے ذمہ دار ڈویژن	پبلک منیجمنٹ، فنانشل سیکٹر اینڈ ٹریڈ ڈویژن ، CWRD
عملدرآمد کرنے والی ایجنسی	-

■ رابطے

پراجیکٹ کی ویب سائٹ	http://www.adb.org/projects/48065-002/main
پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست	http://www.adb.org/projects/48065-002/documents